



The Absolute Reality

www.quran4u.com



رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ



پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں
کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندہری)

سورة هُود

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الر

الف لام را

کتابِ اُحْکَمَتْ آيَاتُهُ

یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں

ثُمَّ نُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1)

اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بہ تفصیل بیان کر دی گئی ہیں۔

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ^ج

(وہ یہ) کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو

إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2)

اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔

يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا

وَيُؤْتِكُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ^ط

اور صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی (کی داد) دے گا

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3)

اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں (قیامت کے) بڑے دن کے عذاب سے ڈر ہے۔

إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ^ط

تم (سب) کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونِ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ^ج

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں۔

ج
أَلَا حِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

سُن رُكھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں (تب بھی) وہ انکی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5)

وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے۔

ج
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔

كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6)

یہ سب کچھ کتاب روشن میں (لکھا ہوا) ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

اور (اس وقت) اس کا عرش پانی پر تھا

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا^ط

(تمہارے پیدا کرنے سے) مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے

وَلَيْنُ قُلْتِ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ

لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7)

اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد (زندہ کر کے)
اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

وَلَيْنِ أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِبُهُ

اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے۔

أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ

دیکھو جس روز ان پر واقع ہو گا (پھر) ٹلنے کا نہیں

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8)

اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزأ کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔

وَلَيْنِ أَدْنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحْمَةً ۖ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكُفُورٌ (9)

اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس
سے اسکو چھین لیں تو ناامید (اور) ناشکر (ہو جاتا ہے)

وَلَيْنِ أَدْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو (خوش
ہو کر) کہتا ہے کہ (آہا) سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔

إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10)

بیشک وہ خوشیاں منانے والا (اور) فخر کر نیوالا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11)

ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کئے۔ یہی ہیں جن کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ

شاید تم کچھ چیز وحی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو۔

وَصَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَذْرُ

اس (خیال) سے تمہارا دل تنگ ہو کہ (کافر) یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا؟

أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ

یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا۔

إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ

(اے محمد) تم تو صرف نصیحت کرنیوالے ہو

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12)

اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟

قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا

مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13)

کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی دس سورتیں بنا لاؤ خدا کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو

فَاللَّهُ يَسْتَجِيبُ الْكُفْرَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اتر ہے

وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ^ط

اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14)

تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہئے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا

جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب

ہوں ہم انکے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں

وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15)

اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ^ط

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں (آتش جہنم) کے سوا اور کچھ نہیں۔

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)

اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کئے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّهِ

بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل (روشن) رکھتے ہوں

وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ

اور ان کے ساتھ ایک (آسمانی) گواہ بھی اس کی جانب سے ہو

وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً^ج

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے

(تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟)

أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ

تو تم اس (قرآن) سے شک میں نہ ہونا۔

إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (17)

یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لانے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو خدا پر جھوٹ افتراء کرے؟

أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ

ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کئے جائیں گے

وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ

اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔

أَلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18)

سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا

جو خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19)

اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔

أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

یہ لوگ زمین میں (کہیں بھاگ کر خدا کو) ہرا نہیں سکتے

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔

يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ

(اے پیغمبر) ان کو دو گنا عذاب دیا جائے گا

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20)

کیونکہ یہ (شدت کفر سے تمہاری بات) نہیں سن سکتے تھے اور نہ (تم کو) دیکھ سکتے تھے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21)

بہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسِرُونَ (22)

بلاشبہ یہ لوگ آخرت میں سب سب زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأُحْبِبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23)

یہی صاحب جنت ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ

دونوں فرقوں (یعنی کافر و مومن) کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرہ ہو اور ایک دیکھتا سنتا۔

هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (24)

پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذِ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (25)

اور ہم نے نوح کو انکی قوم کی طرف بھیجا تو (انہوں نے انسے کہا)
کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈرسانے (اور پیغام پہنچانے) آیا ہوں

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ

کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26)

مجھے تمہاری نسبت عذاب الیم کا خوف ہے۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا

تو انکی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں۔

وَمَا نَرَاكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا

اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو ہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنیٰ درجے کے ہیں

بَادِي الرَّأْيِ

اور وہ بھی رائے ظاہر سے (نہ غور و تعمق سے)

وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ

اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے

بَلْ نَنظُرُكُمْ كَاذِبِينَ (27)

بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي

انہوں نے کہا کہ اے قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف دلیل (روشن) رکھتا ہوں

وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِهِ فَخَمَّيْتُ عَلَيْكُمُ

اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے

أَنْزِلُكُمْ هَا

تو کیا ہم اس کے لئے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں؟

وَأَنْتُمْ لَهَا كَاِرْهُونَ (28)

اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا

اور اے قوم! میں اس (نصیحت) کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں۔

إِنِّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ

میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا

اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انکو نکلنے والا بھی نہیں ہوں۔

إِنَّهُمْ مُلَاؤُوا رَبِّهِمْ

وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں

وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (29)

لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔

وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ

اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو (عذاب) خدا سے (بچانے کے لئے) کون میری مدد کر سکتا ہے؟

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (30)

بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟

وَلَا أَتُكَلِّمُ الْغَافِلِينَ

میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ

اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں

وَلَا أَتُكَلِّمُ الْإِنْسَانَ الْمَلَافِي

اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

وَلَا أَتُكَلِّمُ الَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا

اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ

کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی (یعنی اعمال کی جزائے نیک) نہیں دیگا

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ

جو انکے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔

إِنِّي إِذْ أَلَمِنَ الظَّالِمِينَ (31)

اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَ لَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا

فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32)

لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ

نوح نے کہہ کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کریگا۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33)

اور تم (اس کو کسی طرح) ہرا نہیں سکتے۔

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ

اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔

هُوَ رَبُّكُمْ

وہی تمہارا پروردگار ہے۔

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34)

اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟

قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُمْ فَعَلَيْ إِجْرَامِي

کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ و کا وبال مجھ پر

وَأَنَا بَرِيءٌ لِّمَا أُجْرِمُونَ (35)

اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔

وَأَوْحِي إِلَى نُوحٍ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لائے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)

تو جو کام یہ کر رہے ہیں انکی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

وَأَصْنَعِ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ۔

وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا^ج

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا

إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ (37)

کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔

وَيَصْنَعِ الْفُلَّكَ

تو (نوح نے) کشتی بنانی شروع کر دی۔

وَكَلَّمَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ^ج

اور جب انکی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے'

قَالَ إِنَّ تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ (38)

وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح (ایک وقت) ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ

اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا۔

وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (39)

اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور جوش مارنے لگا۔

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

تو ہم نے نوح (کو) حکم دیا کہ کشتی میں سوار کر لو ہر قسم (کے جانداروں) میں سے جوڑا جوڑا (یعنی) دو (دو جانور ایک اور ایک نر اور ایک ایک مادہ) لے لو

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن آمَنَ

اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے (کہ ہلاک ہو جائیگا) اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو انکو بھی (کشتی میں سوار کر لو)

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40)

اور انکے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَهَرَسَاهَا

(نوح نے) کہا کہ خدا کا نام لیکر (کہ اسی کے ہاتھ میں) اسکا چلنا اور ٹھہرنا (ہے) اس میں سوار ہو جاؤ۔

إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41)

بیشک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

اور وہ انکو لیکر (طوفان کی) لہروں میں چلنے لگی (لہریں کیا تھیں) گویا پہاڑ (تھے)

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعَزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42)

اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہہ (کشتی سے) الگ تھا پکارا

کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔

قَالَ سَأُوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ

اس نے کہا کہ میں (ابھی) پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچالے گا۔

قَالَ لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ

انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں

(اور نہ کوئی بچ سکتا ہے) مگر اس پر جس پر خدا رحم کرے۔

وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43)

اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آچاں ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَّمَاءِ اقْبَلِي

اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔

وَغِيضَ الْمَاءَ وَتُضَيَّبَ الْأَمْرُ

تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ

اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری۔

وَقِيلَ بُعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44)

اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي

اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار! میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے

(تو اسکو بھی نجات دے)

وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45)

تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے۔

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

وہ تو ناشائستہ افعال ہے۔

فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو۔

إِنِّي أَعْظَمُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46)

اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ

نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جسکی مجھے حقیقت معلوم نہیں۔

وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (47)

اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ۚ

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ (جو) تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر (نازل کی گئی ہیں) اتر آؤ۔

وَأُمَمٍ سَمَّيْتَهُمْ نَمًّا عَلَيْهِمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48)

اور کچھ اور جماعتیں ہو گئی جن کو ہم (دنیا کے فوائد سے) محظوظ کریں گے پھر انکو ہماری طرف سے عذاب الیم پہنچے گا۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۗ

یہ (حالات) من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں

مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُهَا أَنْتُمْ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ۗ

(اور) اس سے پہلے نہ تم ہی ان جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم (ہی ان سے واقف تھی)

فَاصْبِرْ

تو صبر کرو

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49)

کہ انجام پر ہیز گاروں ہی کا (بھلا) ہے۔

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو (بھیجا)

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ

انہوں نے کہا کہ میری قوم! خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (50)

تم (شُرک کر کے خدا پر) محض بہتان باندھتے ہو۔

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا^ص

میری قوم! میں اس (وعظ و نصیحت) کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا۔

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي^ج

میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (51)

بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

اور اے قوم! اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو۔

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ

وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بینہ برسائے اور تمہاری طاقت بڑھائے گا۔

وَلَا تَتَوَلَّوْا الْبُحْرَيْنِ (52)

اور (دیکھو) گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔

قَالُوا يَا هُوَذَا مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَاتٍ

وہ بولے ہو د تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53)

اور ہم (صرف) تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ^ظ

ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسب پہنچا (کردیوانہ کر) دیا ہے۔

قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ وَأَبِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54)

انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو
کہ جن کو تم (خدا کا) شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔

صَلِّ
مِنْ دُونِهِ

(یعنی جن کی) خدا کے سوا (عبادت کرتے ہو تو)

فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ (55)

تم سب مل کر میرے بارے میں (جو) تدبیر (کرنی چاہو) کر لو اور مجھے نہ دو۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ

میں خدا پر جو میرا اور تمہارا (سب کا) پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

(زمین پر) جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔

إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56)

بیشک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ

اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے

وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ

اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لاسائے گا۔

وَلَا تَصْرُوهُ شَيْئًا

اور تم خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57)

میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔

وَمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيئًا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

اور جب ہمارا حکم (عذاب) آپہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچالیا۔

وَجَجَّيْنَا لَهُمُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58)

اور انہیں عذاب شدید نجات دی۔

وَتِلْكَ عَادٌ

یہ (وہی) عاد ہیں

جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59)

جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر و سرکش کا کہا مانا۔

وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی (لگی رہے گی)

أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ

دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔

أَلَا بُعِدَ الْعَادِ قَوْمٍ هُودٍ (60)

(اور) سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔

وَإِلَىٰ شِمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

اور شمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو (بھیجا)

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ^{صل}

تو انہوں نے کہا کہ قوم! خدا ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا۔

فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ تَوْبًا إِلَيْهِ^ج

تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61)

بیشک میرا پروردگار نزدیک (بھی ہے اور دعا کا) قبول کرنے والا (بھی) ہے۔

قَالُوا يَا صَاحِبُ اتَّقِ اللَّهَ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا^{صل}

انہوں نے کہا صاحب اس سے پہلے ہم تم سے (کئی طرح کی) امیدیں رکھتے تھے
(اب وہ منقطع ہو گئیں)

أَتَذَهَبَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں۔

وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62)

اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلا تے ہو اس میں ہمیں قومی شبہ ہے۔

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي

صاحب نے کہا قوم! بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں

وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ

اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے (نبوت کی) نعمت بخشی ہو

فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ^{صل}

تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اسکے سامنے میری کون مدد کریگا؟

فَمَا تَزِيدُ وَنَبِيَّ غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63)

تم تو (کفر کی باتوں سے) میرا نقصان کرتے ہو۔

وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ

اور (یہ بھی کہا کہ) اے قوم! یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی (یعنی معجزہ) ہے

فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ

تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں (جہاں چاہے) چرے

وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64)

اور اسکو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آپکڑے گا۔

فَعَقَرُوهَا

مگر انہوں نے اس کی کوچھین کاٹ ڈالیں۔

فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ^{صل}

تو (صالح نے) کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن (اور) فائدے اٹھالوں۔

ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ (65)

یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ انکے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچالیا

ظ

وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ

اور اس دن کی رسوائی سے (محموظ رکھا)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66)

بیشک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ

اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ (کی صورت میں عذاب) نے آپکڑا

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (67)

تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

ظ

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا

گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔

ظ

أَلَا إِنَّ شِمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ

سن رکھو کہ شمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔

أَلَا بُعِدَ الشُّمُودَ (68)

اور سن رکھو شمود پر پھٹکار ہے

صل

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا

اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا۔

صل

قَالَ سَلَامٌ

انہوں نے بھی (جواب میں) سلام کہا۔

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69)

ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ (ابراہیم) بھنا ہوا بچھڑالے آئے۔

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَ هُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے (یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے) تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔

قَالُوا الْاِتِّخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ (70)

(فرشتوں نے) کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم قوم لوط کی طرف (انکے ہلاک کرنے کو) بھیجے گئے ہیں

وَأَمْرًا أَنَّهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ

اور ابراہیم کی بیوی (جو پاس) کھڑی تھی ہنس پڑی

فَبَشِّرْ نَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71)

تو ہم نے اس کو اسحق اور اسحق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی۔

قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ

اس نے کہا اے ہے میرے بچہ ہوگا؟

وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا

میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں۔

إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72)

یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔

قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟

رَحْمَتِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ

اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔

إِنَّهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ (73)

وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74)

جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوش خبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ (75)

بیشک ابراہیم بڑے تحمل والے 'نرم دل اور رجوع کرنیوالے تھے۔

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا

اے ابراہیم! اس بات کو جانے دو۔

إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ

تمہارے پروردگار کا حکم آپہنچا ہے۔

وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76)

اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے گا۔

وَمَا جَاءَتْكُمْ مُّسَلْنَا لَوْ طَآئِبِي بِيَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان (کے آنے) سے غمناک اور تنگ دل ہوئے

وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ مَّعْصِيْبٌ (77)

اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهَرِّغُونَ إِلَيْهِ

اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے۔

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔

قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ

لوط نے کہا کہ اے قوم! (جو) میری (قوم کی) لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لئے (جائز اور) پاک ہیں

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي

تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے (بارے) میں میری آبرو نہ کھوؤ۔

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78)

کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟

قَالُوا الْقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ

وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری (قوم کی) بیٹیوں کی ہمیں حاجت نہیں

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79)

اور جو ہماری غرض ہے اسے تم (خوب) جانتے ہو۔

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً

لوط نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی

أَوْ آوِي إِلَىٰ مُكُنِّ شَدِيدٍ (80)

یا میں کسی مضبوط قلعہ میں پناہ پکڑ سکتا۔

قَالُوا يَا لَوْطِ إِنَّا مُرْسَلٌ لَّنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ^ط

فرشتوں نے کہا لوٹ! ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے

فَأَسْرَبَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ

تو کچھ رات رہے سہے اپنے گھر والوں کو لیکر چل دو۔

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَاكُ^ط

اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے۔ مگر تمہاری بیوی

إِنَّهُ مُصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمْ^ج

کہ جو آفت تم پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ^ج

ان سے (عذاب کے) وعدے کا وقت صبح ہے۔

أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81)

اور کیا صبح کچھ دور ہے؟

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَانَهَا

تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس (بستی) کو (الٹ کر) نیچے اوپر کر دیا

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مِّنْضُودٍ (82)

اور ان پر پتھر کی تہ تہ (یعنی پے در پے) کنکریاں برسائیں۔

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ^ط

جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کئے ہوئے تھے

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83)

اور وہ (بستی ان) ظالموں سے کچھ دور نہیں۔

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو (بھیجا)

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

تو انہوں نے کہا اے قوم! خدا ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

وَلَا تَتَّقُوا الْمَكِّيَالَ وَالْمِيزَانَ

اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔

إِنِّي أَرَأَيْكُمْ بِمَخْبِرٍ

میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں

وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (84)

اور (اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو) مجھے تمہارے بارے میں

ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

اور اے قوم! ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85)

اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔

بَقِيَّتِ اللَّهُ حَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ^ج

اگر تم کو (میرے کہنے کا) یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لئے بہتر ہے

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيضٍ (86)

اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

انہوں نے کہا شعیب! کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم انکو ترک کر دیں۔

أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ^ط

یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں۔

إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87)

تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَتٍ مِّن رَّبِّي وَمَا رَزَقْنِي مِنهُ رِزْقًا حَسَنًا^ج

انہوں نے کہا اے قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو۔ (تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟)

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَأَكُمُ عَنْهُ^ج

اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔

إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ^ج

میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے (تمہارے معاملات کی) اصلاح چاہتا ہوں

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ^ج

اور (اس بارے میں) مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی (کے فضل) سے ہے

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)

میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ
مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ

اور اے قوم! میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح
کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔

وَمَا قَوْمٌ لَوْ طِ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89)

اور لو ط کی قوم (کا زمانہ تو) تم سے کچھ دور نہیں۔

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

اور اپنے پروردگار سے بخش مانگو اور اسکے آگے توبہ کرو۔

إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90)

بیشک میرا پروردگار رحم والا (اور) محبت والا ہے۔

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَيْدُ إِهْمَاتِنَا قَوْلُ

انہوں نے کہا کہ شعیب! تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں

وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا

اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو۔

وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ

اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ (91)

اور تم ہم پر (کسی طرح بھی) غالب نہیں ہو۔

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ لِي أَخْذُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ

انہوں نے کہا کہ قوم! کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے؟

وَأَتَّخِذُ مَثَلَهُمْ وَرَاءَ كُمُ ظَهْرِيًّا

اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟

إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92)

میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ

اور برادران ملت! تم اپنی جگہ کام کئے جاؤ میں (اپنی جگہ) کام کئے جاتا ہوں۔

سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُجْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ

تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ اور جھوٹا کون ہے؟

وَأَرْتَقِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ رَاقِبٌ (93)

اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجِيئِنَا شُعَيْبًا وَالدِّينَ أَمْنُو مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اسکے ساتھ ایمان لائے تھے انکو تو اپنی رحمت سے بچالیا

وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (94)

اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑنے آدبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

كَأَن لَّمْ يَعْزُوا فِيهَا^ط

گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔

أَلَا بُعِدَ الْهَدْيَيْنِ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (95)

سن رکھو کہ مدین پر (ویسی ہی) پھٹکا رہے جیسی ثمود پر پھٹکا تھی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (96)

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

(یعنی) فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔

فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ^ط

تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے۔

وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97)

اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ^ط

وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انکو دوزخ میں جاتا رہے گا۔

وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98)

اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔

وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ^ج

اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی (پیچھے لگی رہے گی)

بئس الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99)

جو انعام انکو ملا ہے برا ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ^ط

یہ (پرانی) بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں

مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100)

ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تھس نہس ہو گیا۔

وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ^ط

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔

فَمَا اَعْنَتْ عَنْهُمْ اٰهْلُهُمُ النَّبِيُّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرٌ رَبِّكَ^ط

غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آپہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے

وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ (101)

اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔

وَكَذٰلِكَ اُخِذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظٰلِمَةٌ^ج

اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اسکی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے۔

اِنَّ اَخِذَهَا اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ (102)

بیشک اس کی پکڑ دکھ دینے والی (اور) سخت ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ^ج

ان (قصوں) میں اس شخص کے لئے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے۔

ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ

یہ وہ دن ہو گا جس میں سب لوگ اکٹھے کئے جائیں گے

وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (103)

اور یہی وہ دن ہو گا جس میں سب (خدا کے روبرو) حاضر کئے جائیں گے۔

وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا جَلِيلٌ مَّعْدُودٌ (104)

اور ہم اسکے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔

يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

جس روز وہ آجائے گا تو کوئی تنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105)

پھر ان میں سے کچھ بد بخت ہونگے اور کچھ نیک بخت۔

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِئْتَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106)

تو جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں (ڈال دیئے جائیں گے) اس میں انکو چلانا اور دھاڑنا ہو گا۔

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ

(اور) جب تک آسمان وزمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (107)

بیشک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِئْتَابِ الْجَنَّةِ

اور جو نیک بخت ہوں گے ہے بہشت میں (داخل کئے جائیں گے اور)

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ^ط

جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔

عَطَاءٌ غَيْرَ يُجْذَوِ (108)

کہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔

فَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هُوَ لَاءِ^ج

تو یہ لوگ جو (غیر خدا کی) پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلیجان میں نہ پڑنا۔

مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ^ج

یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے ہیں۔

وَإِنَّا لَمَوْنُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109)

اور ہم ان کو انکا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ^ج

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَيْتُمْ بَيْنَهُمْ^ج

اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110)

اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں (پڑے ہوئے) ہیں۔

وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لِيَوْمٍ فِيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَاهُمْ^ج

اور تمہارا پروردگار ان سب کو (قیامت کے دن) انکے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیگا۔

إِنَّهُمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا (111)

بیشک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔

فَأَسْتَقِمُّ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا

سو (اے پیغمبر) جیسا تم کو حکم ہوتا ہے (اس پر) تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو۔

إِنَّهُمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (112)

وہ تمہارے (سب) اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

وَلَا تَزِرُ كَيْفًا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

اور جو لوگ ظالم ہیں انکی طرف مائل نہ ہونا نہیں تو تمہیں (دوزخ کی) آگ آ لپٹے گی۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (113)

اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں (اگر تم ظالموں

کی طرف مائل ہو گئے) تو پھر تم کو (کہیں سے) مدد نہ مل سکے گی۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِنَ اللَّيْلِ

اور دن کے دونوں سروں (یعنی صبح و شام) کے اوقات میں اور رات کی چند (پہلی) ساعات میں نماز پڑھا کرو۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

کچھ شگ نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔

ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ (114)

یہ ان کے لئے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115)

اور صبر کئے رہو کہ خدا انیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟

إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ^ط

ہاں (ایسے) تھوڑے سے (تھے) جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی۔

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116)

اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ (117)

اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکو کار ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً^ط

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118)

لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔

إِلَّا مَنِ رَحِمَ رَبُّكَ^ج

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے۔

وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ^ط

اور اسی لئے اس نے انکو پیدا کیا ہے۔

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119)

اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ

(اے محمد) پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں۔

وَجَاءَكَ نَبِي هَذِهِ الْحَقُّ

اور ان (نقص) میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا

وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120)

اور (یہ) مومنوں کے لئے نصیحت اور عبرت ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121)

اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کئے جاؤ ہم (اپنی جگہ) عمل کئے جاتے ہیں۔

وَأَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122)

اور (نتیجہ اعمال کا) تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے۔

وَالِإِيَّاهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ

اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے۔

ج
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123)

اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔



© Copy Rights:
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana
Lahore, Pakistan
www.quran4u.com